## مَدُسِمُسْءُ وَعِرِرُوْ عَرْسُمُنْهُ رَّعِيدٍ (قَبْرُ 2021)

0							(2021	وير اعد	2 3 2 2 4	ررة عور	برد دوج	e je ner		
1	2 6 7 7 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 4 6 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7	1 2 2 4 2 4 5 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6		28.6.2 3.6.3.2.4)			16.6. 3 5 8 9 7 7 7 9)	15.6.2021 2.6.2021 2.6.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	14.6.2021 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	9.6.2 څخونميتيش	8.6.2 5.6.9 × × 9.	2.6.2 5.6.9 x x 9.0.	ב' הריים לה ב' ב' הריים ב' הריים להריים - הריים	
10   10   10   10   10   10   10   10			17	16	15	14	13	12	11	10	9	8		
10   10   10   10   10   10   10   10	1	10	✓	✓	פיית	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	1
1   10		10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
10	-	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	1	10	✓	✓	✓	✓	פיית	✓		✓	~	✓	-	
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	-	
10		10	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		-	
10   10   11   12   13   13   13   13   13   13	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	✓	, ,	
0	0	10	**	**	**	**	**	**	**		**	**		
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*		
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		15
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	מיני באני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני באני באני באני באני באני באני באני ב	16
10	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	הְרַבְּינִבְּ בִּקְבֶּצִבְ בִּינִפְּבָּ בִּינִבְּבְּ	17
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هُ مُرَدُ طُرِمُونُ وُهُومُهُ رَبُرُوهُ رَفَاقُراللَّهُ	18
0   10   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ८०   १०   १०   ८०   १०   १०   ४०   ✓   ✓   ✓   ८०   १०   १०   १०   १०   ४०	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	בר ב ארש" . 20 ג הם ברולה בין ב ברב בתרשל ביינים א הם ברולה בין ב	19
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20
0   10   ✓   ✓   ✓   >   كانتين	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	יקנים ל #ט ט מיני ניסים ניסים ל מקנים לקניאה ביישה היישה ליים ליים ליים ליים ליים ליים ליים ליי	21
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سَرُوعَهُوْ خُرِيرُكُوْ وَمُرْهَاثُوْ وَرُرُووَثُوْ سَرَحُوفُو رُفَاقُواللَّهُ	22
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23
0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   26   ١٥ </td <td>0</td> <td>10</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td>	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	יר בר	25
0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   29     6   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   29     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   30     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   31     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   32     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   32     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   33     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   33     0   10   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥   ١٥ <td< td=""><td>0</td><td>10</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>יניננ "אַרְאָל פֿאָרֶאּל פֿאָרָאָל פֿאָרָאָל פֿאָרָאָל אַרְּ</td><td>26</td></td<>	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	יניננ "אַרְאָל פֿאָרֶאּל פֿאָרָאָל פֿאָרָאָל פֿאָרָאָל אַרְּ	26
6   10   ٣٥   ٣٥   ٧   ٧   ٧   ٧   ٧   ١٥   30 </td <td>0</td> <td>10</td> <td>✓</td> <td>ئاسروچۇ گرېرىگى ۋىدۇڭر بۆھەراللە سۆرۈ بۆھەرۇرىماۋ</td> <td>27</td>	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ئاسروچۇ گرېرىگى ۋىدۇڭر بۆھەراللە سۆرۈ بۆھەرۇرىماۋ	27
0   10   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ۵   30   30   30   30   30   30   31   31   31   31   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   33   33   33   33   33   33   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   34   35   34   35   35   35   35   35   36	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ב תיים ב לי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	28
0   10   ✓	6	10	פיית	פיית	פיית	פיית	פיית	✓	✓	✓	✓	פיית	**.00 " " ) 0 : 0	29
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ני גדי אל	30
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	י דרנד אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו אינו	31
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	י כד יל יל יל יל די ליל יל י	33
0   10   ✓	0	10	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	20,00 י ש) 20,00 נו כ 0 י משק בקנימה ביניסש נחיים נקיפ	34
0   10   ✓	0	10	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		
0 10 マール・アライ できまる できる できる できる できる できる できる できる できる できる でき	0	10	<b>√</b>	<b>✓</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	-	
0   10   ✓	0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	•	37
39 كَوْرُوْبِ مُّرِبِينُ وْمُرْهُمْ رُمُرُو عَنْبِيرُ عَنْ مُ اللهِ عَلَيْهِ وَ عَنْبِيرُ عَنْ مُ اللهِ عَلَيْ مُ	0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		
	0	10	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		
	0	10	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		

1 2 4 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4	2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	30.6.2021 (﴿ وَهُ مُعْمِدُ وَمُرْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ وَمُوْمِدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ	28.6.2021 (	23.6.2021 (	21.6.2021 (	16.6.2021 (﴿ وَصُمِّمْ وَمِيْمِ مِنْ ﴿ وَمُوفِيمِيْمِ ﴾	15.6.2021 (	14.6.2021 (	9.6.2021 (فرقائيس كريريس خريريوسيس (فرقائيسيس)	8.6.2021 (﴿ وَصُمِّمْ وَمِيْرِيْ مِنْ ﴿ وَمُوفِيرِيْمِ مِنْ ﴾	2.6.2021 (فرقا تامر كريم من فرفر يرتاش)	97 57,96 77 57,972	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8		
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	۵) د د ۱۵	4
0	10	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	ים כני ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל	42
0	10	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	קיינית פיד לקניל לי מינה ביל לי מידה ביל מידה ב מידה בידה לקניל לי מידה ביל היל היל ביל מידה ביל ביל היל היל ביל ביל היל היל ביל היל היל ביל ביל היל היל ביל ה	43
0	10	· ·	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	ייתר גין בקנית ביקושת התבק הייקות ב בין סיר היין יין יון בין היינית היינית היינית ביקות ב	45
3	10	وسر	<b>√</b>	<b>√</b>	פיית	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	י פינ <i>ע</i>	<b>√</b>	<b>∨</b>	ממינים בקנמים ביניסמי קסבקיניתי קסבקיניים מיני שי מי מי מי כי היים ב מיקב בקנמים ביניסמי קסבאלי ביסמ	46
0	10	<i>/</i>	<b>√</b>	<b>√</b>	<i>y</i>	<b>√</b>	<b>∨</b>	<b>√</b>	<i>/</i>	<b>√</b>	<b>√</b>	מיקה בקהמב בינסיק הסבינה בסיק בר סבר 11 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
0	10	· ·	<i>'</i>	· ·	<i>'</i>	<i>'</i>	<i>'</i>	<i>'</i>	<b>√</b>	, ,	*	בין קניתני ליוסור הפיתנה אניים איני ביקרת בניתני בימפית הפיתרה אניים	4
0	10	· ·	·	· ·	<i>,</i>	<i>,</i>	<i>,</i>	· ·	· ·	<i>,</i>	<b>√</b>	בתוכן תנות ב לינסי נישית באת ב בתפני בנות ב בינסי ג'שית באת	49
0	10	· ·	· ·	· ·	<i>,</i>	<i>,</i>	, ,	· ·	, ,	<i>,</i>	· ·	מיני אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	50
0	10	-	,_		,	,	,		,_	,_	-	دُودِ وُرِمُودُ وَسُرْهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا ل	1
1	10	✓ ·	✓	✓	✓	✓	√ ·	פיית	√ ·	✓	√ ·	רייני אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	
0	10	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>	ر قرسری فرستگ و فرهای و برگروش سرهیو	
0	10	<b>√</b>	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	، ( ﴿ ﴿ رُكِنَا مُنْ الْمُنْ ا وَجُوفِهِ وَإِلَيْهِ الْمِنْ الْمُنْ	54
1	10	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	✓	פיית	✓	<b>✓</b>	✓	✓	<b>√</b>	י איני איני איני איני איני איני איני אי	55
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	✓	ה אינו לי אינו היינו האינו האינו קרוב א בקראב ביתים א קירוב האינו	56
0	10	✓	~	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	נינ ל לו 2010 בל 0 ירים ד פלע פרמצו במנשא נושאיל מריים	57
2	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>√</b>	✓	פיית	פיית	) 20 ( " " ) 0 / 0 ( 0 / 0 ) 0 ( 0 / 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58
0	10	<b>✓</b>	<b>√</b>	✓	✓	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	✓	✓	✓	ייס אין	59
5	10	✓	<b>✓</b>	✓	פיית	פיית	פיית	פיית	✓	✓	פיית	מי אי	60
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ייניני של מייני איני מייני איני איני איני איני אומצי ביישא ממבל הבא	61
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	פרצית דקרינים הייניה האיני קצצ	62
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مِوْ بَرُوْرٍ دُرِيرًا وُسُرَهُ بِرُهُ لِللَّهُ بِرِيرُ اللَّهُ بِرِيرُ اللَّهُ بِرِيرُ اللَّهُ	63
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	קיתסיב בקרשל בינורב הליבים	64
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	<b>✓</b>	✓	✓	✓	ם. ב' ז'ק ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל ל	65
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	מר ל אל מינה את הפק קרישה פקמים הת הפק הפק	
2	10	פיית	✓	✓	✓	✓	✓	פיית	✓	✓	✓	ינ א "א 200 (2007 פ"ח 25 פקת' אצ בימשיא בגורפת פ"חב	4
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	בי קדר יו ייט ז' ס' ק' כד' ייט ייט פ' איני פינדם בקחמב בינים אינים בינים בינים בי	
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,5 2 2 3 3,0 2 5,005 ארב פפת פקניתו ביתוסת בהחכב איינו	1
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	פת מצר בת מצב בית של היינה בין היינה בין היינה בין	4
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ם סכר אינו בינים היה לינים לי	4
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	מיני לי לי מי מיני נייני איני מיני איני איני איני	
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	תנד ברב "א" של של ברבים בר	
4	10	פיית	פיית	✓	✓	פיית	✓	פיית	✓	✓	✓	תינב זו ב לי אין זי מיני לי לי לי מיני איני ב מיני תיינב ב מיני ב ב מיני ב מי	1
1	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	פיית	✓	✓	✓	ورو و در مری و در در در استرین و در ساور	4
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ري ۵ % % % % % % % % % % % % % % % % % %	76
2	10	פיית	פיית	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	ייני " " אי אייני	77
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	\$ \$\langle \langle \la	78
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1
0	10	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	רו מי אין זייר ריייר איני איני איני איני איני איני	
0	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	מנד יו שי מי	82

5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	ري موخ يا بري حدمتري ها ي عار دي عرف خ يا بري حدمتري ها ي ي الدي فو	30.6.2021 (قوھ تا بھر تر مربیر میں جا تر تو مربیر میں (	28.6.2021 (ئۇقىتلىم ئويمۇرىكى خاتىرۇرىكىرى)	23.6.2021 (	21.6.2021 (ئۇقىتلىم كېرىكىم كى قىرغىرىمىرى)	16.6.2021 (ئۇھىمىمىر ئويمىيىرىن خۇرۇپىمىرى)	15.6.2021 (ئۇقىمىشرۇپىمىسىمە خاتىرقوپىمىشىرى)	14.6.2021 (ئۇقىمىشرۇپۇرىم كۇيۇپىمىش )	9.6.2021 (ئۇقىتلىم ئۆيمىلىرىغ خاتىرقومىلىتلىر)	8.6.2021 (وقاط للركيميورة فرقرو برطار)	2.6.2021 (فرهم میروریس فر فرو پرمیردر)	25 53625	
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8		
0	10	✓	✓	✓	✓	~	-	✓	✓	✓	✓	קינב 1 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83
0	10	✓	√ √	✓	✓	<b>~</b> ✓	~ ✓	✓	√ √	✓	✓	دَمَرُدُ رُمِرُدُ دُرُهُ دُرِهُ لِهِ الْمِرْدُ سَمِيرُوْ رِمَدُرُ دُوْدِ رُمِرِدُ دُرُهُ دُرِهُ دِنْ الْمِرْدُ رِمَدُرُ دُوْدِ رُمِرِدُ دُرِهُ دُرِهُ دِنْ الْمِرْدُ	83 84
											,	0,0,2,0,2,0,6,6,6,2,2,2,2,2	
0	10	<b>√</b>	√ ·	✓	<i>✓</i>	✓ ·	✓	✓ ·	√ ·	<b>✓</b>	<i>'</i>	3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	84

ئۇۋ

مور موروع

وسر وَءُ رِسْرَيُسْرِسُرُوُّ

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

المراد و المراد المراد

6 قُ 2021 تَدِ مِرْهُ غَمَرِتُ ۚ رَحَوُّدٌ دَدِدَهُ ﷺ وَرُوْدِيْرُ